

111784-احرام کی نیت کے وقت شرط لگانے کا فائدہ

سوال

ج یا عمرے کی نیت کرتے وقت ان الفاظ "إِنْ جَسَيْتُ خَائِسَ فَحَتَّى حَيْثُ جَسَيْتُ" کے ساتھ شرط لگانے کا کیا فائدہ ہے؟

پسندیدہ جواب

اگر کسی کو خدشہ ہو کہ ج یا عمرے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو سکتی ہے تو اس کیلئے ج یا عمرے کے احرام کی نیت کرتے وقت یہ شرط لگانا شرعی عمل ہے، اس کیلئے یہ الفاظ کہے گا: "إِنْ جَسَيْتُ خَائِسَ فَحَتَّى حَيْثُ جَسَيْتُ" [اگر مجھے کوئی روکنے والا روک دے تو میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہوگی جہاں تو مجھے روک دے گا] اس کی دلیل صحیح بخاری: (5089) اور صحیح مسلم: (1207) میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا کو حالت مرض میں ج کا ارادہ کرنے پر کہا تھا: (ج کرو اور شرط لگاتے ہوئے کہہ دو: اَللّٰهُمَّ حَتَّى حَيْثُ جَسَيْتُ) [یا اللہ! میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی جہاں تو مجھے روک دے]

اس شرط کو لگانے کا محرم کو فائدہ یہ ہوگا کہ: اگر حج کی تکمیل میں کوئی مانع آجائے مثلاً: بیماری یا حادثاتی صورت حال بن جائے یا کسی بھی سبب کی وجہ سے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے تو وہ اپنے احرام کو کھول دے اور اس پر کچھ نہیں ہوگا، نہ اس پر فدیہ لازم آئے گا اور نہ ہی ہدی اسی طرح اس پر سر منڈوانا بھی ضروری نہیں ہوگا۔

اور اگر یہ شرط نہ لگائے تو پھر حج یا عمرے کی عدم تکمیل کی صورت میں اسے محصر کہا جائے گا، محصر اسے کہتے ہیں جس کے ج یا عمرے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ آجائے، تو اس پر لازمی ہے کہ وہ ہدی کا جانور ذبح کرے، اور اپنا سر منڈوالے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال میں کیا تھا کہ آپ کو مشرکوں نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدی کا جانور ذبح کر دیا اور اپنا سر منڈوا لیا پھر صحابہ کرام کو بھی یہی کام کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: (اٹھو اور اپنی قربانیاں ذبح کر دو اور پھر سر منڈوا لو) بخاری: (2734)

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَتُوا نَحْجَ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْضِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَصْخَرُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُٗ﴾ اور حج اور عمرے کو اللہ کیلئے مکمل کرو، پس اگر تم محصور کر دئیے جاؤ تو جو ہدی میسر ہو [اسے ذبح کر دو] اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک ہدی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ [البقرة: 196]

شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اس شرط کے لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر احرام والے شخص کو کسی ایسی رکاوٹ مثلاً: بیماری، دشمن وغیرہ کا سامنا ہو جائے جس سے ج یا عمرے کی تکمیل میں رکاوٹ بن جائے تو اس کیلئے احرام کھولنا جائز ہے، اور اس پر کچھ نہیں ہے" ختم شد

مجموع فتاویٰ ابن باز (17/50)

اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"شرط لگانے کا فائدہ: اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی مجبوری کی بنا پر اپنا حج یا عمرہ مکمل نہ کر پائے تو بلا کسی چیز کے اپنا احرام ختم کر سکتا ہے، یعنی وہ احرام کھول دے اس پر فدیہ اور

قنا کچھ بھی نہیں ہے "ختم شد
"مجموع فتاویٰ ابن عثیمین" (22/28)

واللہ اعلم.